

ڈیپازٹ اکاؤنٹس کے لیے اہم معلوماتی اسٹیٹمنٹ

DD- MM-YYYY

Date

ABHI MICROFINANCE BANK LIMITED

اہم نوٹ: اگر آپ نیا اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں تو اس دستاویز کو غور سے پڑھیں۔ یہ انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں دستیاب ہے۔ آپ اس دستاویز کو دیگر بینکوں کی جانب سے پیش کیے جانے والے مختلف اکاؤنٹس کا موازنہ کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ حق ہے کہ تقابلی جائزے کے لیے دیگر بینکوں سے بھی ڈیپازٹ اکاؤنٹس کے لیے اہم معلوماتی اسٹیٹمنٹ (KFS) حاصل کریں۔

برائے، شہر، کانام

اکاؤنٹ کی اقسام اور نمایاں خصوصیات: یہ معلومات مذکورہ بالا تاریخ کے مطابق درست ہیں۔ سروسز، فیس اور مارک اپ کی شرحیں سہ ماہی یا ششماہی بنیاد پر تبدیل ہو سکتی ہیں۔ اپ ڈیٹ شدہ فیس / چارجز کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں یا ہماری کسی بھی براؤنج تفریف لائیں۔

ABHI DEPOSIT ACCOUNTS

تفصیلات	آسان اکاؤنٹ	سہولت کرنٹ اکاؤنٹ	سہولت پلس کرنٹ اکاؤنٹ	اعتماد بچت اکاؤنٹ	روزانہ منافع اکاؤنٹ	نسواں روزانہ منافع اکاؤنٹ	تخفہ ٹرم ڈپازٹ	محافظ ٹرم ڈپازٹ
کرنسی	پاکستانی روپے	پاکستانی روپے	پاکستانی روپے	پاکستانی روپے	پاکستانی روپے	پاکستانی روپے	پاکستانی روپے	پاکستانی روپے
اکاؤنٹ کے لیے کم از کم بیلنس	100 روپے	2,000 روپے	10,000 روپے	2,000 روپے	5,000 روپے	5,000 روپے	N/A	N/A
بڑا رقم رکھنے کے لیے	N/A	1,000 روپے	10,000 روپے	1,000 روپے	5,000 روپے	5,000 روپے	N/A	N/A
کم از کم بیلنس چارجز (اگر مقررہ بیلنس برقرار نہ رکھا جائے)	N/A	100 روپے بشمول FED	100 روپے بشمول FED	100 روپے بشمول FED	100 روپے بشمول FED	100 روپے بشمول FED	N/A	N/A
اکاؤنٹ مینیجمنٹس فیس	150 روپے ماہانہ* بشمول FED	150 روپے ماہانہ* بشمول FED	150 روپے ماہانہ* بشمول FED	150 روپے ماہانہ* بشمول FED	150 روپے ماہانہ* بشمول FED	150 روپے ماہانہ* بشمول FED	N/A	N/A
کیا اکاؤنٹ پر منافع ادا کیا جاتا ہے	نہیں	نہیں	نہیں	ہاں	ہاں	ہاں	ہاں	ہاں
اندازہ منافع کی شرح (%)	N/A	N/A	N/A	ریٹ شیڈ کے مطابق	ریٹ شیڈ کے مطابق	ریٹ شیڈ کے مطابق	ریٹ شیڈ کے مطابق	ریٹ شیڈ کے مطابق
منافع کی ادائیگی کی فریکوئنسی	N/A	N/A	N/A	ششماہی	ماہانہ	ماہانہ	1 ماہ، 3 ماہ، 6 ماہ، 12 ماہ، 15 ماہ، 18 ماہ، 24 ماہ، 36 ماہ اور 60 ماہ	1 سال، 2 سال، 3 سال اور 5 سال
فراہم کردہ مثال:	N/A	N/A	N/A	(ماہانہ اوسط بیلنس × منافع کی شرح ÷ 365) × اس مدت کے دنوں کی تعداد	(بیلنس × منافع کی شرح ÷ 365) × دن	(بیلنس × منافع کی شرح ÷ 365) × دن	(بیلنس × منافع کی شرح ÷ 365) × دن	(بیلنس × منافع کی شرح ÷ 365) × دن
قبل از وقت / قبل از وقت / انکیڈمنٹ / رقم اٹھانے کی فیس	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	نیچے دیے گئے نوٹ کو ملاحظہ کریں*	

نوٹ:

1. قبل از وقت انکیڈمنٹ کی صورت میں درج ذیل منافع کی شرحیں لاگو ہوں گی:

(i) منافع کی ادائیگی کی شرح، جس کا حساب ذیلی شیڈ (ii) کے مطابق کیا جائے گا، اس میں مزید 200 بیس پوائنٹس (bps) کی کمی کی جائے گی۔

(ii) قبل از وقت انکیڈمنٹ کی صورت میں، منافع کی شرح قریبی مکمل مدت (Tenor) کے مطابق تصور کی جائے گی۔ مذکورہ شرح، اکاؤنٹ کھولنے کے وقت یا انکیڈمنٹ کے وقت کے قریبی مکمل مدت کے TDR کی شرحوں میں سے جو کم ہو، وہ لاگو ہوگی۔ مزید برآں، اگر محافظ ٹرم ڈپازٹ کو اس کے اجرا کے پہلے سال کے دوران انکیڈش کیا جائے تو تخفہ ٹرم ڈپازٹ کی مکمل مدتیں اور شرحیں لاگو ہوں گی۔

(iii) اگر TDR کو اس کے اجرا کے ایک ماہ کے اندر انکیڈش کیا جائے تو کوئی منافع ادا نہیں کیا جائے گا۔

2. محافظ ٹرم ڈپازٹ کے لیے کم از کم عمری حد 50 سال ہے۔

سروس چارجز

اہم نوٹ: یہ اس اکاؤنٹ کے اہم سروس چارجز کی فہرست ہے۔ اس میں تمام چارجز شامل نہیں ہیں۔ مکمل فہرست کے لیے آپ ہماری براؤنر یا ہماری ویب سائٹ "www.abhibank.com" ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ براہ کرم نوٹ کر لیں کہ تمام بینک چارجز قابل اطلاق ٹیکسز کے علاوہ ہیں۔

ABHI DEPOSIT ACCOUNTS

سروسز	طریقہ کار	آسان اکاؤنٹ	سہولت کرنٹ اکاؤنٹ	سہولت پلس کرنٹ اکاؤنٹ	اعتماد بچت اکاؤنٹ	روزانہ منافع اکاؤنٹ	نسواں روزانہ منافع اکاؤنٹ	تخفہ ٹرم ڈپازٹ	محافظ ٹرم ڈپازٹ
کیش ٹرانزیکشن	اندرون شہر	مفت	مفت	مفت	مفت	مفت	مفت	N/A	N/A
	شہر سے دوسرے شہر	مفت	مفت	مفت	مفت	مفت	مفت	N/A	N/A
	ایسے بینک کے رقم اٹھانا	مفت	مفت	مفت	مفت	مفت	مفت	N/A	N/A
	دیگر بینک کے رقم اٹھانا	شیڈول آف چارجز کے مطابق	شیڈول آف چارجز کے مطابق	شیڈول آف چارجز کے مطابق	شیڈول آف چارجز کے مطابق	شیڈول آف چارجز کے مطابق	شیڈول آف چارجز کے مطابق	N/A	N/A
ڈیبٹ کارڈز	پے پیک کلاسک	1,500 روپے	1,500 روپے	1,500 روپے	1,500 روپے	1,500 روپے	1,500 روپے	N/A	N/A
	پے پیک گولڈ	2,000 روپے	2,000 روپے	2,000 روپے	2,000 روپے	2,000 روپے	2,000 روپے	N/A	N/A
	اجراء	نیچیک 35 روپے	نیچیک 35 روپے	نیچیک 35 روپے	نیچیک 35 روپے	نیچیک 35 روپے	نیچیک 35 روپے	N/A	N/A
چیک بک	اسپیڈ بینٹ	نیچیک 500 روپے	نیچیک 500 روپے	نیچیک 500 روپے	نیچیک 500 روپے	نیچیک 500 روپے	نیچیک 500 روپے	N/A	N/A
	لوئر چیک	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

سروسز	طریقہ کار	آسان اکاؤنٹ	سہولت کرنٹ اکاؤنٹ	سہولت پلس کرنٹ اکاؤنٹ	اعتماد بچت اکاؤنٹ	روزانہ منافع اکاؤنٹ	نسواں روزانہ منافع اکاؤنٹ	تخفہ ٹرم ڈپازٹ	محافظ ٹرم ڈپازٹ
مقامی ریمیٹنس	بینکر زچیک / پی آرڈر	750 روپے	750 روپے	750 روپے	750 روپے	750 روپے	750 روپے	N/A	N/A
غیر ملکی ریمیٹنس	فائر ڈیمینڈ ٹرافٹ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	وائزر ٹرانسفر	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
فیڈ ٹرانسفر	اکاؤنٹ کی اسٹیٹمنٹ۔ کسٹمر کی درخواست پر	150 روپے فی درخواست	150 روپے فی درخواست	150 روپے فی درخواست	150 روپے فی درخواست	150 روپے فی درخواست	150 روپے فی درخواست	N/A	N/A
	ADC / ڈیجیٹل چیلنجر	0.1% یا 200 روپے (جو بھی کم ہو)، ماہانہ 25,000 روپے سے زائد رقم پر	0.1% یا 200 روپے (جو بھی کم ہو)، ماہانہ 25,000 روپے سے زائد رقم پر	0.1% یا 200 روپے (جو بھی کم ہو)، ماہانہ 25,000 روپے سے زائد رقم پر	0.1% یا 200 روپے (جو بھی کم ہو)، ماہانہ 25,000 روپے سے زائد رقم پر	0.1% یا 200 روپے (جو بھی کم ہو)، ماہانہ 25,000 روپے سے زائد رقم پر	0.1% یا 200 روپے (جو بھی کم ہو)، ماہانہ 25,000 روپے سے زائد رقم پر	N/A	N/A
	دیگر	N/A	شیڈول آف چارجز کے مطابق	شیڈول آف چارجز کے مطابق	شیڈول آف چارجز کے مطابق	شیڈول آف چارجز کے مطابق	شیڈول آف چارجز کے مطابق	N/A	N/A
	انٹرنیٹ بینکنگ سکرپشن (ون۔ نام اور سالانہ)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
کلیرنگ (جمع کرنا)	نارمل	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	شہر سے دوسرے شہر	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	اسی دن	فی انسٹرومنٹ 750 روپے	فی انسٹرومنٹ 750 روپے	فی انسٹرومنٹ 750 روپے	فی انسٹرومنٹ 750 روپے	فی انسٹرومنٹ 750 روپے	فی انسٹرومنٹ 750 روپے	N/A	N/A
کلیرنگ ریٹرن	نارمل	فی انسٹرومنٹ 500 روپے	فی انسٹرومنٹ 500 روپے	فی انسٹرومنٹ 500 روپے	فی انسٹرومنٹ 500 روپے	فی انسٹرومنٹ 500 روپے	فی انسٹرومنٹ 500 روپے	N/A	N/A
	شہر سے دوسرے شہر	فی انسٹرومنٹ 500 روپے	فی انسٹرومنٹ 500 روپے	فی انسٹرومنٹ 500 روپے	فی انسٹرومنٹ 500 روپے	فی انسٹرومنٹ 500 روپے	فی انسٹرومنٹ 500 روپے	N/A	N/A
	اسی دن	فی انسٹرومنٹ 1,000 روپے	فی انسٹرومنٹ 1,000 روپے	فی انسٹرومنٹ 1,000 روپے	فی انسٹرومنٹ 1,000 روپے	فی انسٹرومنٹ 1,000 روپے	فی انسٹرومنٹ 1,000 روپے	N/A	N/A

آپ کے لئے ضروری معلومات

اکاؤنٹ کھولنے کے لئے درکار ضروریات: اکاؤنٹ کھولنے کے لیے آپ کو ریگولیٹری ہدایات اور بینک کی انٹرنل پالیسیز کے مطابق شناخت سے متعلق کچھ تقاضے پورے کرنا ہوں گے۔ اس میں آپ کی شناخت کی تصدیق کے لیے دستاویزات اور معلومات فراہم کرنا شامل ہو سکتا ہے۔ یہ معلومات وقتاً فوقتاً درکار ہو سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ چیک باؤنس: چیکس کی عدم ادائیگی پاکستان میں موجود ری کارروائی کے زمرے میں آتی ہے۔ لہذا آپ کو نہایت احتیاط کے ساتھ چیک جاری کرنے چاہئیں۔ [حوالہ: سیکشن F-489، پاکستان بینکل کوڈ] محفوظ تحویل: آپ کے اکاؤنٹ سے متعلق رسائی کے ذرائع جیسے اے ٹی ایم کارڈ، پین کوڈ، چیکس، ای بینکنگ پوز نام، پاس ورڈ اور دیگر ذاتی معلومات کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے۔ صارف کی جانب سے کسی بھی سکیورٹی کوتاہی کی صورت میں بینک ذمہ دار نہیں ہوگا۔ ابھی مائیکرو فنانس بینک لمیٹڈ کسی بھی معلومات کے حصول کے لیے آپ کو کال نہیں کرتا۔ ریکارڈ کو ایڈیٹ کرنا: اہم معلومات کی لاعلمی سے بچنے کے لیے اپنے پروفائل /ریکارڈ کو ہمیشہ بینک کے ساتھ اپ ڈیٹ رکھیں۔ معلومات کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ 042-111-111562 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر اکاؤنٹ طویل عرصہ استعمال نہ کیا جائے تو کیا ہوگا؟ اگر آپ کا اکاؤنٹ 12 ماہ تک غیر فعال (Dormant) اکاؤنٹ قرار دے دیا جائے گا۔ غیر فعال (ڈورمنٹ) ہونے کی صورت میں تمام رقم انکوائن کی سہولت معطل ہو جائے گی۔ اکاؤنٹ کو دوبارہ فعال کرنے کے لیے آپ قریبی ابھی مائیکرو فنانس بینک برانچ سے رجوع کر سکتے ہیں یا درج ذیل طریقوں کے ذریعے درخواست دے سکتے ہیں: * دستخط شدہ تحریری درخواست بذریعہ ڈاک ارسال کریں: پلاٹ نمبر 12، ایس اے باؤس، D-12 مرکز اسلام آباد * اپنے رجسٹرڈ ای میل ایڈریس سے ای میل بھیجیں: complaints@abhibank.com * ابھی ہیلپ لائن (042-111-111562) پر اپنے رجسٹرڈ نمبر یا لینڈ لائن کے ذریعے کال کریں	اکاؤنٹ بند کرنا: اپنا اکاؤنٹ بند کرنے کے لیے براؤزر میں اپنی قریبی برانچ تشریف لائیں۔ مدد کیسے حاصل کی جائے یا شکایت کس طرح درج کروائیں؟ بذریعہ ڈاک: کسٹمر ایکسیپس فیس یونٹ، پلاٹ نمبر 12، ایس اے۔ باؤس، D-12 مرکز، اسلام آباد کال سینٹر: 042-111-111562 ای میل: complaints@abhibank.com برانچ: تحریری شکایات برانچ میں جمع کروائیں۔ شکایتی باکس: اپنی شکایت برانچ میں موجود راپ باکس میں ڈالیں۔ ویب سائٹ: https://abhibank.com/abhibank.com/complaint-and-suggestion/ ای۔ فارم: https://abhibank.com/abhibank.com/complaint-and-suggestion/ اے ٹی ایم: برانچ کے اے ٹی ایم ویلنٹیویئر میں ہاٹ لائن سہولت دستیاب ہے اگر آپ ہمارے جواب سے مطمئن نہ ہوں تو آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے درج ذیل نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں: بذریعہ ڈاک: ڈائریکٹر، بینکنگ کنٹرول اینڈ کنزیومر پروٹیکشن ڈیپارٹمنٹ (BC&CPD)، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، آئی آئی چندر گپٹر روڈ، کراچی ای میل ایڈریس: cpd.helpdesk@sbp.org.pk ہیلپ لائن: 0092-21-111-727-273 فیکس: 0092-21-99221160 سنوئی پورٹل: https://sunwai.sbp.org.pk/
---	--

میں یہ اقرار کرتا/کرتی ہوں کہ میں /ہم نے اس اہم معلوماتی اسٹیٹمنٹ کو موصول کر لیا ہے اور اسے سمجھ چکا/چکی ہوں۔

کسٹمر کا نام:	تاریخ:	
منتخب پروفوڈٹ:		
اکاؤنٹ کا میمنڈریٹ:	سنگل /جوائنٹ /کوئی بھی ایک یا سروائیور	
پتہ:		
رابطہ نمبر:	موبائل نمبر:	ای میل ایڈریس:
کسٹمر دستخط:		دستخط کی تصدیق: